

پیشہ کر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ .

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَابِلُهُ وَلَا مُؤْمِنٌ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾) آل عمران: ۱۰۲

(يَأَيُّهَا النَّاسُ أَتَقُوا رِبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحْدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَنْقُوا اللَّهُ أَلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾) النساء: ۱

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَرْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾) الأحزاب: ۷۰ - ۷۱

أَمَّا بَعْدُ ...

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْمَهْدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ) وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدُعْةٍ وَكُلُّ بِدُعْةٍ ضَلَالٌ وَكُلُّ ضَلَالٌ فِي التَّارِ.

بەپیشی شەریعەتى پىروزى ئىسلام ئافرهەت لە ئەسلى ئىنسان بۇونى دا لەگەل پىاودا يەكسانەو ھىچ جىاوازى نىيە، بۆيە ئىسویش دروستكراوىكە كە خودا رېزى لېڭىرتووهو تىكراي ئەپلەپايمە حورمەت و رېزەت كە بۇ ئىنسان دانراوه ئافرهىش تىيىدا بەشدارەو ھىچ كەسىش ئەپلەپايمە رېزەت كە بەخشىوه تەنها خودا خۇى نەبى، ھەربۆيە پىۋىستە تەنها شوکرو سوپاسى خودا بکات و ئەركى بەندايەتى و عىبادەت تەنها بۇ ئەپلەپايمە بکات.

﴿ يَكَيْأَنُوا أَنَّا سُلْطَانٌ أَنَّا قُوَّا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَجَهَةٍ ﴾ النساء: ٠١

واتە: «ئەمى خەلکىنىھە گۈپىرايەلى پەروەردگارitan بىكەن و خوتان لە حەرامكراوه کانى بېپارىزىن، ئەمۇ پەروەردگارەي كە ھەمووتانى دروستكىدووه لەيەك نەفس كە ئادەمە». كەواتە ئافرهتىش لە ھەمان نەفسە كە پىياوانى لى دروستبۇون.

بۆيە ئەمۇ عىبادەت و بەندايەتىيەمى كە ئىنسان بۇيى دروست بسووه ئەرك و وەزىفەمى سەرشانى ئىنسانە، ئافرهتىش وەكىو پىاو تىيىدا بەشدارە، كەواتە ھەروە كو چوڭ لە رووى ئىنسان بۇونەوه يەكسانن و جياوازىيان نىيە، بەھەمان شىيە لە رووى بەندايەتى و عىبادەتسەوە وەكىو يەك بەندەي خودان و ھەرىيەكەيان بەپىيى شروستى تايىبەتى خۆى لەبەرامبەر ئەمانەتى دىن دا يەكسانن..
ھەروە كو خودا دەفرمۇوى:

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الظَّنِيلَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَفِيرًا ﴾ النساء: ١٢٤

واتە: «ھەركەس كەردىوھە چاكەكان ئەنجام بىدات، ئىتىر جياوازى نىيە پىاو بىيان ئافرهت، بەلام بە مەرجىيەك باوھەدار بىي، ئەمۇ ئەوكەسانە دەچىنە بەھەشتەمەوھ بە ئەندازەي درزى نىيۇ ناوکە خورمايدىك سىتەميان لى ناکرى».

وھەروەها دەفرمۇوى:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْسِنَنَّ لَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِإِحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ النحل: ٩٧

واتە: «ھەركەسىيەك كەردىوھى چاك ئەنجام بىدات، ئىتىر جياوازى نىيە پىاو بىيان ئافرهت، بەمەرجىيەك باوھەدار بىي، ئەمۇ لە دونىادا بە ژىانىيىكى پەلە

ئاسووده‌بی و بهخته‌هوری دهیزیمنین، وه لە قیام‌تیش دا بە باشتین شیوه پاداشتی کرد و چاکه‌کانی ده‌دینه‌ووه).
وە هەروهە دەفرمۇسى:

﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيقُ عَمَلَ عَمِيلٍ مِّنْكُمْ مَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى﴾ آل عمران: ۱۹۵
واتە: «خواى پەروه دگارى دەربارە پارانەوە باوەرداران دەفرمۇسى: خواى پەروه دگاريان بەندايەتى و پارانەوە کانى لى وەرگرتىن، وە بەلېنى ئەمەشى پىدان كە كرد وەھى ھىچ كەسىك لە ئىۋە بە زايەنادات و وونى ناكات، ئىتە جىاوازى نىيە پىاو بى يان ئافرهت.».

وە سەرجەم زانىيان و شەرعناسانى ئىسلام لەسەر ئەمە كە كەنگن كە ھەممو دواندن و ئاراستە تەموجىھاتە کانى قورئان و سوننەت ھەردوو رەگەزى پىاو ئافرهت دەگرىتىمۇ بە بى جىاوازى، مەگەر بەلگەمۇ نىشانە كى روون و ئاشكاراو گومان ھەلنىڭ ھەبىت كە ئەمە حۆكم و دواندىنە تايىەتەند بکات بە يەكىيانمۇ.

جارىكىان «ام سَلَمَةَ» گۈيى لە پىغەمبەر بۇوەللىك بانگى لە خەلکى كردوو فەرمۇسى: «إِيَّاهَا النَّاسُ» واتە: «ئەمە خەلکىنە». بە پەلە خوتى پىچايمۇ بىرات.

خزمەتكارە كەمى «ام سَلَمَةَ» ووتى:

«إِنَّمَا دَعَا الرِّجَالَ وَلَمْ يَدْعُ النِّسَاءَ». واتە: «پىغەمبەر علیه السلام بانگى پىاوانى كردوو، بانگى ئافرهتاني نەكردوو». بانگى ئافرهتاني نەكردوو.

«ام سَلَمَةَ» ش فەرمۇسى:

«إِنَّمَا مِنَ النَّاسِ» واته: «منيش وه کو پیاوان له ئىنسانم»⁽¹⁾.

کەواتە خودى عىبادەت و بەندايەتى و ديندارى ئەركو و ھېزىفەيە كە لە ئەستۆي ئىنسان دانراوه و پیاو ئافرهت لە بەرامبەرى دا يەكسانن بى جىاوازى.

وھ شەتىكى روون و ئاشكرايە كە يەكىك لە مەرجە كانى قەبۇل بسوونى بەندايەتى و ديندارى بىرىتىيە لەھەي كە چۈنۈتى و شىۋازى ئەنچامدانى ئەھ عىبادەت و بەندايەتىيە كەتومەت وھ کو ئەھ عىبادەت و بەندايەتىيە بى كە لە «قورئان و سوننەت»دا ھاتۇوه، ئەگەر نا لەلای خودا پەسەندو وەرگىراو نابى.

ھەوھ کو پىغەمبەرىش ﷺ دەفرمۇسى:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».«

واته: «ھەركەسىيەك عىبادەت و بەندايەتىيەك بکات و فەرمانى ئىيمەي لەسەر نەبى لە «قورئان و سوننەت»دا، ئەموا خودا وەريناڭرى»⁽²⁾.

جا بۇ ئەھى ئىنسان بتوانى عىبادەت و بەندايەتىيەكانى كەتومەت وھ کو ئەھى بى كە پىغەمبەر ﷺ كەدووه يەتى يان فەرمۇسىتى، پىۋىستى بە شارەزايى و زانىارى و بەرچاۋۇونى قەيە.

جا بەپىتى ئەھە ئافەتىش نەك هەز إېگەي فيزبۇون و وەرگەتنى عىلمى پىدرابو، بەلكو فەزىش كراوه لەسەزى كە ئەھ زانىارانە فيزبى كە يەكىكە لە فەزە عەينىيەكان، تاۋەك بەندايەتى و ديندارىيەكەي لەسەر زانىارى و چاۋۇشنى بىت، نەك لەسەر تەقلیدى كويىرانە لاسايدى كەدنەوەي ناحالىانە.

ھەوھ کو پىغەمبەرىش ﷺ دەفرمۇسى:

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».«

(1) صحيح مسلم - كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته - حدث : 4346.

(2) صحيح مسلم - كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة - حدث : 3329.

واته: «گەران بە دوای زانیارى شەریعیدا فەرزە لەسەر ھەموو موسالمانىيەك»⁽¹⁾. وە ئەم فەرمۇدەيە تايىبەت نىيە بە پىاوانىمۇ، بەلکو ئافرەتانيش دەگرىيەتەوە .

وە پىغەمبەر ﷺ زۆر گرنگى داوه بە فيئركەزى ئافرەتان و بەرچاۋۇنكردنەوەييان لە زانستى شەرعى دا، ھەربىويە لە ھەموو ھەفتەيەكدا رۆژىكى بۆيان تايىبەت كردىسو، بۆ ئەمۇدى زانستى شەرعىيان فيېرىكات و چاۋۇشنىان بىكەت بە دين.

ھەروەكو «أَبِي سَعِيدٍ» دەيگىرېتەمۇ دەفەرمۇسى:

«جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا تَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلَّمُنَا مِمَّا عَلِمَكَ اللَّهُ». .

واته: «ئافرەتىك ھات بولاي پىغەمبەر ﷺ و ووتى: پىاوان دىن بوللات و گوئى بىستى فەرمایىشتەكانى تو دەبن، بۆيە توش رۆژىك بۆ ئىمە دىيارى بىكە، تاوهەك بىيىن بوللات و ئەم عىلەمە شەرعىيە كە خودا فيئرى كردووى ئىمەش فيېرىكەي».

پىغەمبەر ﷺ يىش فەرمۇسى:

«مَوْعِدُكُنْ يَبْتُ فُلَانٍ وَأَنَاهُنَّ فِي ذَلِكَ». واته: «با جىڭكاي كۆبۈونەتەن لەممالى فلان كەس بىيت، وە پىغەمبەر ﷺ ئەھات بولاييان لەمۇ رۆژە كە بۆيى دىيارى كردىبوون و فيئرى دىنى دەكەن»⁽²⁾.

(1) سنن ابن ماجه - المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب فضل العلماء والحدث على طلب العلم حديث : 222.

(2) مسنند أحمد بن حنبل - ومن مسنند بي هاشم مسنند أبي هريرة رضي الله عنه - حديث :

وہ پیغہمبہر ﷺ ھاوہلانی خوی ھانداوہ کہ خیزان و مال و مندالیان شارہزا
بکھن لہ دین و عیلمی شرعیان فیریکھن:

ھروہ کو «مالک»ی کورپی «الحویرث» دھرموموی:

ھاتم بولای پیغہمبہر ﷺ لہ گھمل چھند کھسیک لہ خزمانی خوّم، وہ نزیکھی
بیست شہو لھلای ماینہو، وہ پیغہمبہر ﷺ زور بہبہزہبی و نہرم و نیان بوو
لہ گھملان، وہ کاتیک کہ بینی ئیمہ شہیدای گھرانہوہین بولای خیزان و مندالمان،
پیٰ فہرموموین:

«ارجعوا فَكُوْنُوا فِيهِمْ وَعَلِمُوهُمْ».

واتہ: «بگھرینہو بولای خیزان و کھس و کارتان و فیری شرعیان
بکھن...»⁽¹⁾.

وہ «عائشۃ» وہ صفی ئافرہتانی مھدینہ دھکات کہ زور تامہزروبوون بو
شارہزابوون لہ عیلمی شہرعی کہ شہرمکردن نہدہبوو ریگر لہ فیریبوونیان،
دھرموموی:

«نِعَمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ».

واتہ: «باشتین ئافرہتان ئافرہتانی ئہنصاریہ کان بوون، چونکہ شہرم ریگھی
فیریبوون و شارہزابوونی لینہدہ گرتن»⁽²⁾.

لہ چھندہا فہرمومودہا ئمو راستییہ بہ روونی دھینری کہ ئافرہتانی
سہردہمی پیغہمبہر ﷺ زور ھمولیان داوه بو شارہزابوون لہ شرع لھوانہ:

(1) صحیح البخاری - کتاب الأذان باب من قال : لیؤذن فی السفر مؤذن واحد - حدیث :

610

(2) صحیح مسلم - کتاب الحیض- باب استحباب استعمال المغسلة من الحیض فرصة من

مسک فی موضع - حدیث : 526.

«أَيُّ هُرِيرَةَ» دَفْهُرْمُوْيِ: «خَوْلَةَ بُنْتَ يَسَار» پرسیاری لَه پیغَمْبَر عَلِیْلَه کردو و تى: ئەمی پیغَمْبَر خوا عَلِیْلَه، من تەنها يەك جل و بەرگم ھەيە، وە بەو جلەيشەوە تۈوشى حەيز دەم، چى لى بكم؟

پیغَمْبَر عَلِیْلَه فَهَرْمُوْيِ:

«إِذَا طَهَرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّ فِيهِ».

واتە «ئەگەر پاك بۇويتىمۇھ ئەمە شوينى خووينە كە بشۇ، پاشان نويىزى پېۋەبکە».

ووتى: ئەمی پیغَمْبَر خوا عَلِیْلَه ئەگەر شوينەوارى ھەر مايمەد؟
فَهَرْمُوْيِ: «يَكْفِيْكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكَ أَثْرُهُ».

واتە «ئاوه كە بەسە و شوينەوارى هيچ زيانىكت پى ناگەيەنىت»⁽¹⁾.

وە «عَائِشَةَ» ئى خىزانى پیغَمْبَر عَلِیْلَه دَفْهُرْمُوْيِ:

«أَسْـمَاءَ» پرسیارى لَه پیغَمْبَر كرد عَلِیْلَه دربارە چوئىھەتى خوشۇردىنى پاكبوونمۇھ لَه بى نويىزى، ئەويش فَهَرْمُوْيِ:
«تَأْخُذُ إِحْدَى كُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصْبِّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغُ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصْبِّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا».

(1) صحيح : السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة - جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره - باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الشوب بعد حديث 3827. مسند أحمد بن حنبل - ومن مسند بيبي هاشم - مسند أبي هريرة رضي الله عنه - حديث 8564. قال الشيخ الألباني : حديث صحيح، انظر أنظر السلسلة الصحيحة 298، إرواء الغليل (1 / 168).

واته: «هەریەك لە ئىيۇه با ئاواو سىيدە كەن ئامادە بکات، پاشان دەستنويىتىكى باش بگرى، ئىنجا ئاوا بکات بە سەرى داوجوان دەست بخاتە سەرى تا ئاوا دەگاتە بىخى سەرى، پاشان ئاوا بکات بە سەرتاپاي جەستەيدا، پاشان خۆپاڭ بکاتەوە بە پارچە لوڭە كى بونداركراو بە بوتى مىسىك، بمو جوڭە پاڭ دەبىتەوە».

«أَسْمَاءَ» ووتى بمو پارچە لوڭە بونداركراو چۈن پاڭ دەبىتەوە؟
پىغەمبەريش ﷺ فەرمۇسى: «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا»: «سبحان الله باك دەبىتەوە».

«عائىشةَ» فەرمۇسى: «كَانَهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَعَّنَ أَثَرَ الدَّمِ». واته: ««أَسْمَاءَ» لە مەبەستە كەن پىغەمبەر ﷺ تىنە گېيشت، مەبەستى پىغەمبەر ﷺ ۋە بۇ شوينى خوينە كە كە دامىنىتى بمو پارچە لوڭە بونداركراو پاڭ بکاتەوە».

پاشان «أَسْمَاءَ» پرسىيارى كرد دەربارە چۈن يەتى خوشۇردىنى لەشكەرانى:

پىغەمبەريش ﷺ فەرمۇسى:
«تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتَحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصْبِّثُ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُوُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ».

واته: «ئاوا ئامادە بکە دەستنويىتىكى جوان بگە، پاشان ئاوا بکە بە سەرت داوجوان دەستتى تىبىخە تاوه كە ئاوا دەگاتە بىخى سەرت، پاشان ئاوا بکات بە سەرتاپاي جەستەيدا»⁽¹⁾.

(1) صحيح مسلم - كتاب الحيض-باب استحباب استعمال المغسلة من الحيض فرصة من مسک في موضع - حديث : 526. مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار - الملحق

بۆیه ئەگەر لە ژیانی پیغەمبەر ﷺ وورد بیینمەوە دەبىنین زۆر بە گەرم و گوریەوە بەدەم ئافرهتانی موسڵمانەوە چووە و گویی بۆ پرسیارە کانیان گرتووە و زۆر بە جوانیش وەلامی پرسیارە کانیانی داوهتەمەوە، وە ئەم ھەلۆیستانی پیغەمبەر ﷺ بەرامبەر ئافرهتانی موسڵمان واي کرد کە ئافرهتانیش شان بەشانی پیاوان بە گویرەی توانای خویان شارەزابن لە عیلمی شەرعی و بتوانن لە دوای پیغەمبەر ﷺ فەتوای شەرعی بەدەن و رۆلی گەورە بین لە گواستنەوە و گیرانمەوە فەرمودە کانی پیغەمبەر ﷺ، وە نزیکمە «216» ئافرهتى صەحابى فەرمودەيان لە پیغەمبەر ﷺ گىرداوەتەمەوە.

بۆیه پیویستە لەسەر ھەموو ئافرهتىکى موسڵمان ئەوندە لە «قورئان و سوننت» شارەزابن کە بتوانن بىرباوهە ديندارى و عىبادەتە کانیان لەسەر چاورۇشنى بى و به پىيى بەلگە بى.

وە يەكىك لەو لايمانى كە پیویستە ئافرهتان تىيىدا شارەزا بن، بابەتە فقهىيە کانە و مەسىلە شەرعىيە کانە كە پەيوەندىيان بە چوتىيەتى ئەنجامدانى عىبادەتە کانەوە ھەيدى.

وە لەو بابەتە فقيهيانەش كە تايىبەتە بە ئافرهتانەوە پیویستە تاك تاكى ئافرهتانی موسڵمان شارەزايى تموايان دەربارەي ھەبى بىرىتىيە لە:
ئە حکامى خويىنەكان، كە ھەايەكە لە «خويىنى بى نويىزى، خويىنى زدىستانى، خويىنى نە خۆشى» دەگۈيەتەوە.

شارهزاپون دهباره ئەحکامى خوینەكان يەكىكە لە بابەتە فقەيە گرنگەكان و پىويستە لەسەر ئافرهاتانى موسىلمانان شارهزاپى باشيان ھەبى لمو بابەتانەدا.

چونكە سەرەتاي دەست پى كەنلىرى لە ئافرهاتدا نىشانەي بالغ بۇنىيەتى و دەبىتە كەسىكى موڭەلەف ، واتە ئافرهت كە بۆ يەكەم جار لە تەمەنيدا دە كەۋىتە بى نويزىيەمە، ئالەمە كاتمۇھ پى دەوترى كاتى پىتگەيىشتۇن و بالغ بۇونى، بۆ يە ئىيت ھەممۇ فەرمان و نەھىيە شەرعىيەكان رووى تىدەكەن و دەبىت پابەند بىت پىيانەمە و پى دەوترى كەسىكى موڭەلەف.

بەواتايەكى تر ھەركات ئافرهت بى نويزىيە دەستى پى كەنلىرى لە تەمەنيدا ، ئىتىر بەرپرسىارە بۆ قىامەتى لەمەدىكەت لە چاك و لە خراپ ، بۆ يە لەمەنەمە و پىنوس دەست دەكتە بە تۈماركەنلى گفتارو كەدارو بېرۇباورى ..

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلِيَسْتَأْذِنُوا كَمَا أَسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيَّتِيهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ النور: ٥٩

واتە: «كەنداش كەنداش ئەكتەن ئەكتەن تەمەنەنى پىتگەيىشتۇن و بالغ بۇون، ئەمەن ھەركات وىستىيان بىيىن بۆ مالان دەبى داواي مولەت بىكەن بۆ چۈونە ژۇورەوە وەك چۆن كەسانى گەورەي دەبى داواي مولەت بىكەن».

كەوابۇو ھەر كە گەيشت بە تەمەنەنى پىتگەيىشتۇن و بالغ بۇون ئىيت دەبى بەپىي داواكارييە شەرعىيەكان ھەلس و كەمەت بىكەن، چونكە تەمەنەنى منداشلى بەسەر چۈون، بۆ يە ئىيت سەرپىشك نىيە لەمەدى چ دەكتە و چ ناكات، ئەگەر نا لەسەرى دە كەمەت و بۆ قىامەتى حىساب و كتابى لەسەر دەكرى.

وە پىتگەمبەريش ﷺ دەفرمۇوى:

«رُفِعَ الْقَلْمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْفَلَ».

واته: «پینووس لەسەر سى كۆمەل خەلک ھەلگىراوه كە خراپەيان لەسەر نانوسرى ئەگەر ئەنجامى بىدەن: كەسىك خەوتىبى هەتا بە خەبەر دى، وە مەندالىك هەتا بالغ دەبى، وە شىتىك ھەتا چاڭ دەبى»⁽¹⁾.

وەکو وتمان ئافرهەت لە تەمەنی بى نويزىيەمەدە بالغ دەبى و پىنوسى لەسەر دەكەپىتە كار، بەلگەش بۇ ئەھو:

پیغہ مبہر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ دِفْرِ مَوْوِی: «لَا يَقْبُلُ اللّٰهُ صَلَّاۃً حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»۔

واته: « هەر ئافرەتىيەك گەيشتە تەممەنى بى نويىزى، ئەوا بەبى سەرپوش خواي گەورە نويىزى لىۋەرنانەڭرىي »⁽¹⁾.

(1) صحيح : سنن أبي داود - كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيّب حدا - حديث : 3846. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة جماع أبواب صلاة الإمام قاعدا بقيام باب من تجب عليه الصلاة حديث : 4728، و كتاب الصيام باب الصيام لا يلزمه فرض الصوم حتى يبلغ ولا المجنون حتى - حديث : 7800، كتاب الخلع والطلاق جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا - باب لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ حديث : 14108، كتاب السرقة جماع أبواب القطع في السرقة - باب المجنون يصيّب حدا حديث : 16009. السنن الصغرى للبيهقي - كتاب الحدود بباب المجنون يصيّب حدا - حديث : 2584. مسنن أحمد بن حنبل - مسنن الأنصار الملحق المستدرك من مسنن الأنصار - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حديث : 24141. الأوسط لابن المنذر - كتاب السفر جماع أبواب الصلوات عند العلل - ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبي بالصلاه ابن سبع ليس حديث : 2266. قال الشيخ الألباني: حديث صحيح، انظر صحيح وضعيف سنن أبي داود - (9 / 398)، و صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - (2041/41/5)، و صحيح الجامع الصغرى - (ج 1 / ص 330/3512)، و مشكاة المصايح - (ج 2 / ص 246/3287).

ئەمەش بەلگەيە لەسەر ئەمەش لەو تەممەنەمە كە بى نويىزى بەسەردا دى، ئىتىز دەبى سەرپووش بپوشى، بەبى سەرپووش نويىزەكە جىيى هېيج ناگرى.

ئەمە لەلايەك، لەلايەكى تر ھەرييەكە لەو خويىنانە بە تايىبەت خويىنى بى نويىزى كۆمەللىك ئەحکامى شەرعى پىوه پەيوەستە، وە گىريدراروە لەگەل زۆرىك لە عىبادەتە گەورەكانى وە كو نويىزۇ رۆزۈو حەج، وە ھەروەها پەيوەندىيەكى زۆر حەساسى ھەيە بە ژيانى نىوان ژن مىرەدە، ھەرييەكە لە سەجيى كەنلىنى نىوان

- (1) صحيح : صحيح ابن خزيمة - كتاب الصلاة جماع أبواب اللباس في الصلاة - باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار حديث : 750. صحيح ابن حبان - كتاب الصلاة بباب شروط الصلاة - ذكر الزجر عن أن تصلي الحرة البالغة من غير خمار يكون حديث : 1732. المستدرك على الصحيحين للحاكم - ومن كتاب الإمامة أما حديث عبد الرحمن بن مهدي - حديث : 858. سنن أبي داود - كتاب الصلاة باب المرأة تصلي بغير خمار - حديث : 551. سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها أبواب التيمم - باب إذا حاضرت الجارية لم تصلي إلا بخمار حديث : 653. سنن الترمذى الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب : ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار حديث : 359. مصنف ابن أبي شيبة - كتاب صلاة التطوع والإمامية وأبواب متفرقة المرأة تصلي ولا تعطى شعرها - حديث : 6138. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة جماع أبواب ليس المصلي - 312 باب ما تصلي فيه المرأة من الشياب حديث : 3026. مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حديث : 24607. قال الشيخ الألباني: حديث صحيح ، أنظر صحيح أبي داود - (1 / 596/126)، صحيح ابن ماجة - (1 / 534/108)، صحيح الجامع الصغير - (2 / 7747/166)

ژن و مىردو تەلاقۇر لىكجىابۇنىمۇدۇ، كۆمەللىك حاھىتى ترى پىوه گىرىدراوه، بويىھ شارەزابۇن دەربارەيان زور زەرورە بۇ ئافەرتان، تەنانەت بۇ پىاوانىش..

ھەر بويىھ زانايىان و شەرعناسانى ئىسلام زور بايەخيان بەھو بابەتە داوهو وردو درېشتى ئەھەنسەلەيان روونكىردىتەوە:

ھەروهە ئىمامى «ابن قدامة» دەفرمۇسى:

« وَقَدْ عَلِئَ الشَّرْعُ عَلَى الْحَيْضِ أَحْكَامًا ؛ فَمِنْهَا أَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْءُ الْحَائِضِ فِي الْفَرْجِ .. وَمِنْهَا أَنَّهُ يَمْنَعُ فِعْلَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ... فَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى مَعْرَفَةِ الْحَيْضِ ، لِيُعْلَمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ . » .

واتە: «شەرع كۆمەللىك ئەحکامى بەستوتەوە بە خويىنى بى نويىشىمۇ، لەوانە حەرامە سەرجىيى كىردىن لەگەل خىزاندا، وە ھەروهە نابى نويىزۇ رۆزۇو بگىرى لەكتى بى نويىشى دا، بويىھ پىويسىتى و زەرورەتى ئەمۇ شتانە پالمان پىوه دەنى كە شارەزابىن دەربارە بى نويىشى، تاواھە كە فىرى ئەھەنگانەش بىن كە پەيوەندەيان بى نويىشىمۇ ھەيە»⁽¹⁾.

وەھەروهە ئىمامى «ابن عابدين» دەفرمۇسى:

« ومعلوم أن الحيض من الامور العامة المتكررة ويترتب عليه مالا يخصى من الأحكام كالطهارة والصلوة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والخلع وغير ذلك من الأحكام فيجب الاعتناء بما هذه حاله ». .

واتە: «شىتىكى زانراوه كە بى نويىشى يەكىكە لەھو حاھەتە گىشىتىانە كە بەردەوام دوبىارە دەبىتەوە شەرعىش كۆمەللىك ئەحکامى لەسەر داناوه، وە كە بابەتەكانى پاكو خاوىنى و نويىزۇ قورئان خويىندۇ رۆزۇو ئىعتکاف و حەج و بالغ

بوون و سەرجىيى كىدەنلى نىيان زۇن و مىردو تەلاقۇق و خولۇغ و عىيدە كىشان و چەندەھا ئەحکامى ترىش، بويىھە پىيوىستە گەرنگى بەم بابهتە بىرى و ھەولۇي فېرىبۈون و شارەزابۇنى بىرى⁽¹⁾.

وھەروھا ئىمامى «الشريبي» دەفرمۇوى:

«يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَعْلُمُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَالإِسْتِحَاضَةِ وَالنَّفَاسِ ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَالِمًا لِرِمَهْ تَعْلِيمُهَا ، وَإِلَّا فَلَهَا الْخُرُوجُ لِسُؤَالِ الْعُلَمَاءِ بَلْ يَجِبُ ، وَيَحِرُّمُ عَلَيْهِ مَعْهَا إِلَّا أَنْ يَسْأَلْ هُوَ وَيُخْبِرَهَا فَتَسْتَعْنِيَ بِذَلِكَ» .

واتە: «پىيوىستە لەسەر ئافرهە ئەمۇندە كە پىيوىستە بويى لە ئەحکامە كانى خويىنى بى نويىزى و زەيستانى و خويىنى نەخوشى فيرىبى و به دواي شارەزابۇندا بگەرى، جا ئەگەر مىرددە كە شارەزايى لە بابهتەدا ھەبۇو، ئەمۇ پىيوىستە لەسەرى خىزانى خويى فيرىبات، بەلام ئەگەر خويى شارەزايى نەبۇو دەربارەي ئەمۇ بابهتە، ئەمۇ پىيوىستە لەسەر ئەمۇ ئافرهە بەداوى شارەزابۇندا بگەرى و پرسىيار لە زانىيان بکات، وە بۇ مىرددە كە دروست نىيە بىيىتە رېڭر لە بىرددەم خىزانى و نەيەللىي فېرى ئەمۇ شتانە بىيى، مەگەر خويى زانىارىيە كانى بۇ وەربىگرى و فېرى بکات⁽²⁾.

لەوھوھ دەردە كەھى شارەزابۇن دەربارەي ئەحکامى خويىنە كان واجب و پىيوىستە لەسەر ئافرهە ئەمۇ ئەحکامى خويىنە كان باشىان ھەبى لە بابهتاندە.

جا ئەوانەھى كە پالىنەرم بۇون بۇ نوسىنەھە ئەم پەرتۈوكە دەربارەي

ئەم بابهتە كۆمەلېك ھۆكار بۇون:

(1) الجموع - (2 / 345).

(2) مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (2 / 76).

يەكەم: گرنگى بابەته كە وەك پىشتر ئامازەمان پىكىرد، وە نەبۇونى كتىبىكى كوردى لەسەر ئەم بابەته كە بە ووردۇ قۇولۇ چووبىيەتە ناو ھەممۇ ئەحکامەكانى ئەم باسەمۇ.

دەوەم: نەبۇون و كەمى شارەزايى دايىكان و خوشكانى موسالماغان دەربارەي ئەم باسە.

سېيىھەم: وە زۇرىك لە برايانم داوايانلىكى كە ھەولبەدم بابەتىكى تىرۇ تەمماو دەربارەي ئەم باسانە بنوسم، بە تايىبەت كاك «رۆستەم چەمچەمالى» خوابى گەمورە پاداشتى بداتمۇ.

بۇيە منىش دەستم كرد بە نوسىنەمە ئەم بابەته و لىكىنەمە باسەكان لە

دەۋ دەروازەمە:

دەروازەي يەكەم: خويىنەكانى ئافرەت لە رۈوۈپىشىكى يەمەن.

لە دەروازەي يەكەمدا ھەولىدراب ئەمەندەي كە پىيىست بىي بە گۈيرەي زانستى پىشىكى سەرددەم باس لەم بابەته بىكىرى لە چوار بەش دا:

بەشى يەكەم: خويىنى بىي نويىژى: كە ئەم بەشەش دابەشكراوه بۇ ئەم بىرگانە خوارەوە:

بىرگەن يەكەم: پىناسەي بىي نويىژى و سورى مانگانە.

بىرگەن دەوەم: گرنگى بىي نويىژى.

بىرگەن سېيىھەم: ماوهى بىي نويىژى.

بىرگەن چوارەم: بىر خويىنى بىي نويىژى.

بىرگەن پىتىجەم: رەنگى خويىنى بىي نويىژى.

بىرگەن شەشەم: چۈيەتى رۇودانى كىدارى بىي نويىژى.

بىرگەن حەوتەم: نىشانەكانى كەوتىنە سەر بىي نويىژى.

بەشی دوووهم: خوینى نەخۆشى، كە ئەم بەشەش لەم بىرگانى خواردە پىك ھاتووه:

بىرگەم يەكەم: مەبەست لە خوینى نەخۆشى.

بىرگەم دوووهم: جۆرە كانى خوینى نەخۆشى.

بىرگەم سىيىھەم: هوکارە كانى خوینى نەخۆشى.

بەشى سىيىھەم: جىاوازى لە نىۋان خوینى بىنۇيىتى و خوینى نەخۆشى.

بەشى چواردهم: خوینى زەستانى.

دەروازەي دوووهم: خوینەكانى ئافرەت لە رۇوي شەرعەمەم.

لە دەروازەي دوووهمدا كە ئەسلى مەبەستە لە نوسىينى كتىيەكەدا، بويىه ھەولۇراوە لېكۈلەنەوەيەكى وردو قۇول سەبارەت بە ئەحکامى خوینەكان بىرى، كە ئەم دەروازەيە لە سىيازەدە « بەش» پىك ھاتووه، وە ھەر بەشىكىش دابەش كراوه بۇ چەند « باسىكە»، ھەربا سىيىكىش چەند « خالى» يىكى لىدەبىتەمە، وە ھەر خائىكىش چەند «*بىرگە» يەك دەگىرىتەمە.

بەشى يەكەم: جۆرە كانى خوینى ئافرەت

باسى يەكەم: خوینى بىنۇيىتى:

خالى يەكەم: پىناسە كەمى.

خالى دوووهم: كاتە كەمى.

خالى سىيىھەم: رەنگە كەمى.

خالى چواردهم: ماوە كەمى.

باسى دوووهم: خوینى زەستانى:

خالى يەكەم: پىناسە كەمى.

خالى دوووهم: ماوە كەمى.

باسى سىيىھەم: خوینى نەخۆشى

خالى يەكەم: پىناسە كەمى.

☞ خالی دووهم: چونیهتی جیاکردنوهی خوینه که.

☞ بهشی دووهم: ئە حکامە کانى تايىھەت بە پاكوخاولىنى بو ئافرهتى لە بى نويىژى دا
بى:

☞ باسى يەكەم: دوكمى خويىنى بى نويىژى و چۈنېتى پاكىرىدىنە وەم:

☞ خالى يەكەم: حوكىمى خوينە كە خوى.

☞ خالى دووهم: چونیهتى خارىن كردىنوهى خوينە كە.

☞ باسى دووهم: خوشۇردىنى ئافرهت كاتىن پاك دەبىتەوە لە بى نويىژى:

☞ خالى يەكەم: حوكىمى خوشۇردىنى ئافرهت كەلە بى نويىژى
پاكىدەيتىمۇه.

☞ خالى دووهم: پايە کانى خوشۇردىن.

☞ خالى سىيىھەم: شىۋازو چونیهتى خوشۇردىنە كەمى.

☞ خالى چوارەم: خوشۇردىنى ئافرهتى كەلە بى نويىژى دا بى و توشى
لەشگرانى هاتبى.

☞ خالى پىنچەم: شۇردىنى ئافرهتى كە لەماوهى بى نويىزىھە كەمى دا
وفات بکات.

☞ باسى سىيىھەم: تەيەموم گردن بۆ ئافرهتىن بىيانووسى ھەبىن و نەتوانىن ئاو
بەكاربەھىتنى:

☞ خالى يەكەم: ماناي تەموم و بەلگەمە دروستىتى لە شەرع دا.

☞ خالى دووهم: ئافرهت ئەگەر لە بى نويىژى پاك بسووه كەمى بوئى
دروستە تەيەموم بکات.

☞ خالى سىيىھەم: تەيەموم بەچى دەكىرى .

☞ خالى چوارەم: ئەندامە کانى تەيەموم كامانەن.

☞ خالی پینجم: ئمو نویزانەی وابه تمومىمۇ كراون گىرپانمۇي
ناويت.

☞ خالی شەشم: بەتال كەرەوە كانى تەيەمۇم.
بەشى سىيەم: كۆمەلە ئە حکامىك كە بۇ ئافەرتان دروستە لە كاتى بى نویزى دا
ئەنجامى بىدەن

☞ باسى يەكەم: خويىندى قورئان بۇ ئافەرتى لە بى نویزى دا بى
☞ باسى دووهەم: دەستدان لە قورئان و خويىندى لە سەر مصحف
☞ باسى سىيەم: ئافەرتى كەلە بى نویزى دا بى، بەرمادى خواردن و
خواردنمۇي و جەستەوە عمرەقى گىيانى ھەممۇي پاكن

☞ باسى چوارەم: چۈونە مىزگەمۇت و مانمۇھ تىيىدا.
بەشى چوارەم: ئەو ئە حکامانەي تايىيە تەمنىن بە نویزەوە:
☞ باسى يەكەم: حوكىمى نویزىكەن لە كاتى بى نویزى دا.
☞ باسى دووهەم: گىرپانمۇي ئەو نویزانەي كە نە كراون لە كاتى بى نویزىدا.

☞ باسى سىيەم: ئەنجامدانى نویزەكانى كاتى كە پاك دەبىتىمۇھ:
☞ خالی يەكمەن: نویزى ئەو كاتەي تىيىدا پاك دەبىتىمە.

☞ خالی دووەم: نویزى ئەو كاتەي تىيىدا دەكۈيىتە بى نویزىمە.

بەشى پىنجم: ئەو ئە حکامانەي تايىيە تەمنىن بە رۇزۇمۇھ.
☞ باسى يەكەم: رۇزۇگەرن لە كاتى بى نویزى دا.
☞ باسى دووهەم: گىرپانمۇي ئەو رۇزوانىمى كە بە هوى بى نویزىمۇھ لە دەست
چۈن.

☞ باسى سىيەم: توش بۇون بەبى نویزى لە كاتى بە رۇزۇوبۇون دا.
☞ باسى چوارەم: پاكبۇونمۇھ لە رۇزانى رۇزۇ دا.

که باسی پیتچه‌م: پاکبونمه له شموداو، دواختتنی خوشوردن بو دوای بانگی بهیانی.

بهشی شهشم: ئە حکامە کانى تاييهت به حەج و عەمرە.

که باسی يەكەم: حۆكمى ئىحرام بەستنى حەج و عەمرە له کاتى بى نويىزى دا.

که باسی دووەم: حۆكمى سورانەوه بەدھورى كەعبدادا له کاتى بى نويىزى دا.

که باسی سېيىھەم: حۆكمى سەعى نیوان صەفاو مەرۇوه له کاتى بى نويىزیدا.

که باسی چوارەم: سورخواردنى مان ئاوايى لە کاتى بى نويىزى دا.

بهشى حەوتەم: ئە وئە حکامانە تاييه تەمنىدن بە تىڭەلى سەرجىن ئىن ومىرددوه:

که باسی يەكەم: جووتبوون له گەل خىزان لە کاتى بى نويىزى دا:

خالىي يەكەم: حۆكمە كەم.

خالىي دووەم: كەفارەتە كەم.

* بىرگەي يەكەم: حۆكمى كەفارەتە كە.

* بىرگەي دووەم: بىر كەفارەتە كە.

خالىي سېيىھەم: كى دەبى كەفارەتە كە بىدان؟

که باسی دووەم: جووتبوون له گەل خىزان دوای پاك بۇونەوهى و پىش خوشوردنى.

که باسی سېيىھەم: حۆكمى سەرجىي كەدرنەيك دوور بى لە جووتبوون.

بهشى هەشتم: ئە وئە حکامانە تاييه تەن بە تەلاق و جىابونەوهوه:

که باسی يەكەم جۆرە کانى تەلاق بەپىي ئەماساتە كە ئەمۇ ئافرەتى تىدا تەلاق دەدرى لە بى نويىزى دايە يان نا؟

خالىي يەكەم: تەلاقى سوننى:

* بىرگەي يەكەم: ماناي تەلاقى سوننى.

* بِرَكَةٍ دُووْدَمْ: شَهْرِ عِيَّهٖ تَهْلَاقَى سُونْنَى.

* بِرَكَةٍ سِيِّيَّهٖ: حُوكَمَى تَهْلَاقَى سُونْنَى.

﴿خالى دووهم: تهلاقى بيدعى:

* بِرَكَةٍ يَهْ كَمْ: مَانَى تَهْلَاقَى بِيَدِعَى.

* بِرَكَةٍ دُووْدَمْ: شَهْرِ عِيَّهٖ تَهْلَاقَى بِيَدِعَى.

* بِرَكَةٍ سِيِّيَّهٖ: حُوكَمَى تَهْلَاقَى بِيَدِعَى.

﴿بَاسَى دُووْهَمْ: جِيَاوَازِي نِيَوَانِ ئَافَرَهْتِيَّكِي گُوازِراوَهُ ئَافَرَهْتِيَّ نَهْ گُوازِراوَهُ كَه تَهْلَاقَ بَدْرِيَّ وَ لَه بَىْ نُويَّى دَا بَىْ .

﴿بَاسَى سِيِّيَّهٖ: گَيْرَانِمَوَهِ ئَافَرَهْتِيَّكِ كَه لَه بَىْ نُويَّى دَا تَهْلَاقَدَرَا بَىْ .

﴿بَاسَى چَوارَهَمْ: دَهْسَتْ هَلَكَرْتَنِي ڙَنْ لَه مِيرَدَه كَمَى لَهْمَاوَهِ بَىْ نُويَّى دَا (خلع).

﴿بَهْشِي نُويَّهِمْ: ئَه حَكَامَه كَانِي تَايِّهَتْ بَهْ چَاوَهْرَوَانِ ئَافَرَهَتْ :

﴿بَاسَى يَهْ كَمْ: پِيَنَاسُو حُوكَمَو حِيكَمَهَتِي.

﴿خالى يَهْ كَمْ: پِيَنَاسَه كَمَى.

﴿خالى دووهم : حُوكَمَى چَاوَهْرَوَانِ كَرْدَنِي ئَافَرَهَتْ وَ عِيَدَه كَيَشَانِي.

﴿خالى سِيِّيَّهٖ: حِيكَمَهَتِي چَاوَهْرَوَانِ كَرْدَنِي ئَافَرَهَتْ وَ عِيَدَه كَيَشَانِي.

﴿بَاسَى دُووْهَمْ: جَوْرَه كَانِي .

﴿خالى يَهْ كَمْ ئَه گَهَر نَه گَوِيرَابِيتَمُوه.

﴿خالى دووهم: ئَه گَهَر ئَافَرَهْتِيَّكِ گَوِيرَابِيتَمُوه.

* جَوْرَى يَهْ كَمْ: عِيَدَهَيِ ئَافَرَهْتِيَّكِ كَه بَىْ نُويَّى بَهْسَهَرَدا بَيَّت.

* جَوْرَى دووهم: عِيَدَهَيِ ئَافَرَهْتِيَّكِ كَه بَىْ نُويَّى بَهْسَهَرَدا نَهِيَّت.

* جَوْرَى سِيِّيَّهٖ: عِيَدَهَيِ ئَافَرَهَتِي دُووْگِيَانِ.

﴿خالى سِيِّيَّهٖ گَوِيرَانِي عِيَدَه كَانِ.

* جوْرى يەكەم: گۆرپانى عىددە لە عىددەسى بى نويىزىمۇھ بۇ عىددەسى مانگى.

* جوْرى دووھم: گۆرپانى عىددە لە عىددەسى بى مانگىمۇھ بۇ عىددەسى بى نويىزى.

* جوْرى سىيىھم: گۆرپانى عىددەسى بى نويىزى يان عىددەسى مانگى بۇ عىددەسى ووگىيان.

خالى چوارھم: عىددەسى ئافرهتى دەست ھەلگرتۇو لە مىردى ((المتخلعه)).

بهشى دەيىم: حوكىمى سەربىراوى دەستى ئافرهتى كە لە بى نويىزى دابى.

بهشى يازىزدەيىم: تەممەنلىكەن لە بى نويىزى كەوتىن.

بهشى دوازدەيىم: ئەحکامەكانى خويىنى زەيستانى.

بهشى سىارزدەيىم: ئەحکامەكانى خويىنى نەخوشى.

باسى يەكەم: حوكى خويىنى نەخوشى.

باسى دووھم: ئەحکامەكانى پاڭوخاوىيىنى سەبارەت بە خويىنى نەخوشى.

باسى سىيىھم: جووتبوون لەگەل ئافرهتى كە خويىنى نەخوشى ھەمبى.

خويىنەرەس بەرىئىز... خوشكى موسىمانى:

تاقە سەرچاوهى مەتمانەپىّكراو بۇ نوسىنەھە ئەم بابەتە بىرىتىيە لە قورئانى پىيىز و فەرمۇودەكانى پىيغەمبەر ﷺ، واتە ھەر حوكىيەك باسکرابى بە بەلگەي «قورئان و سوننەت» سەملىيەراوه.

و لە نوسىنەھە ئەم كىيىبەدا رىيزو حورمەتى تەواويسى لە قىسىمەن و گفتارى پەپىتى زانا و پېشەوايانى ئومەت گىراوه، بۇيە ھەولىدراوه لەبەر تىشكى درەشاوهى تىيگەيشتنى پېشىننانى ئومەت لىيىدانەھە يەكى راستىرو بى خەلتەمە

راجح سه بارهت به ئە حکامە کان بکری و، هەرووا کویرانە تە قلیدى ھىچ مەزھەبىتىكى فقهى نە كراوه و نا حالىيانەش شوينكەوتەي قسمۇ بۆ چوونى ھىچ زانايىه كى تىدا پەيرەو نە كراوه.

ھەربويىھ بۆ چوون و قسمۇ كە دارى ھىچ كەسىك پىش «قولئان و سوننەت» نە خراوه ، ئىتىر با ئە كەسەش چەند پلە و پايىھى بەرزىشى بى و چەند عىبادەت و خواپەرسى زۇرىش ھەبى و چەند عىلم و زانستى بەرزىشى ھەبى.

چونكە خودا دە فەرمۇى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا نُقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الحجرات: ١.

واتە: « ئەمى ئەمۇ كەسانەي و باودەتان ھىنباوه و رىابن لە قسە و بىيار و پىشنىاردا پىشى خواو پىغەمبەرە كەمى مە كەمن».

جا لە بە ئەمەي تاقە سەرچاوهى دىندارى بىرىتى يە لە «قولئان و سوننەت» بويىھ «قولئان و سوننەت» تە رازوو ئىسلامەتى و سەنگى مە حەك و پىوھرى بى ھەلّە و پەلّە يە بۇ ھەلّسەنگاندى قسە و بىيارى ھەمۇ زاناو پىشەوايەك، ھەر بويىھ لە ھەر شتىكدا كېشە هاتە پىش دەبى بگەرييەنەو بۇ لاي «قولئان و سوننەت» ئەمە بکەينە ھە كەم بۇ چارە سەرە كېشە كامان.

﴿فَإِنْ تَنْزَعُمْ فِي شَاءِ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحَسَنُ تَأْوِيلًا﴾ النساء: ٥٩.

واتە: « ئە گەر لە ھەرشتىكدا كەوتىنە كېشە دووبەرە كېمە، ئەمە بۇ چارە سەمۇ نەھىشتىنی ئەمۇ كېشە دووبەرە كې بگەرييەنەو بۇ قولئانە كەمى خودا و فەرمایشىتە كانى پىغەمبەر، ئە گەر باودەتان بە خود و رۈزى دوواى ھەيە، چونكە

گەرانىمەھى كىشەكانتان بۇ قورئان و سوننەت باشتىن چارەسەرە و چاكتىن سەرەنجامە بوستان كە پىيى بىگەن».

كەوابۇو قىسمە بېرىارى هەركەسىكىش ھەرچەندە خاونە عىلىم و بەرىز بى ، بەس بەئەندازەن نزىكى و سەرچاوه گرتىنى لە «قورئان و سوننەت» دە گۈيى بۇ دەگىرى و ئىعتبارى پى دە كرى.

جالەبەر ئەمە ھەر بابەتىك كە زانىيان و شەرعناسان بۇ چۈونىيان لمبارەيمەھى جىاوازى، ھەولۇداوه قىسمە بۇ چۈونىيان لە گەل بەلگەكانى «قورئان و سوننەت» ھەلسەنگىنرى، ئەمە كە يەككى گرتىيەتەمە لە گەل «قورئان و سوننەت» دا ئەمە وەرگىراوه، وە ئەمەش كە لە گەل «قورئان و سوننەت» يەككى نە گرتىيەتەمە وازى لىيەنراوه..

ھەربۆيە تاوتۇيى قىسمە بۇ چۈونە كانىيان نە كراوه و خىلاف و جىاوازى نىوان نە ھېنراوه، بەلگۇ ئەمە كە بە ئەرجەحتۇ پەسەنتر زانرابى، ئەمە باسکراوه و بە بەلگەش سەملەنراوه.

ھەلبەت كۆكىرىنىمەھى ئەمە ئە حەكامانە دورى لە تەقلیدى مەزھەبى ھەروا كارىكى ئاسان نىيە، بەلگۇ ھەولۇ ماندوو بونىكى زۆرى لە گەل دراوه تاوه كو بتوانرى پۇختەمى ئەمە ئە حەكامانە بخىتى بەردەست دايىكان و خوشكانى كورد زمان، چونكە ئەمۇ زۆرىك لە موسالمانان گىرۋەدى دەستى دوو دىۋەزمەمى ترسناكن و بەرچاوى زۆرىك لە موسالمانانىيان تارىيك و رەش كردووه جوانى و درەشاوهى ئىسلامىيان پەردەپوش كردووه بە تەقلیدى كۆرانەيە بۇ مەزھەبە فقيھىيەكان و، شوينكەوتى ناحالىيانەيە بۇ حزبە سىاسيەكان.

تهقییدی کویرانه بۆ مەزھبە فقیهە کان:

تهقییدی کویرانه بۆ سەر مەزھبە فقیهە کان بەریتیه لەمەنی ئىنسان بە بى زانى بەلگە شوینى فەتوای يەکىك لە ئىمامە کان بکەوى و، ئىسلام تەنها لە سنورى مەزھبە كەي خویدا بىيىنـ..

واتە زۆرىك لەوانەی لەسەر مەزھبە يېكى فقەى دەرۇن، تەنها مەزھبە كەي خويان بە دين دەزانىن و ئامادە نىين گۈي بىگرن بۆ بەلگە قورئان و سوننەت، وە فەتواكانيان بە پىي ئەمەيە كە لە كتىبى مەزھبە كەبەياندا كۆكراوهە تەمەنە دەقە کانى مەزھبەيان لە قورئان و سوننەت لەلا گەورەترە، بويىه هەركاتىك بەم جوڕە كەسانە بۇوتىرى فلان حوكم بە بەلگە قورئان و سوننەت بەم جوڕەيە، وەلامى ئەمەيە دەلى من لەسەر مەزھبى ئىمامى «شافعى»م، بە داخەنە كە زۆرىك لەو كەسانە بەم جوڕە هەلۋىست دەنوين مامۆستاي ئايىنن و خويان بە پىشەواوى دىنيش دەزانىن، وە خەلکىيان وا چەواشە كردووە كە مادام تو لەسەر مەزھبى ئىمامى «شافعى» بىت، ئىتىر بىھىيە ئەگەر كارىك بکەي لەو مەزھبە بچىتىدەرە، دەقە کانى مەزھبەيان كردووە بە شتىك وەما موقەددەس و پېروز كە ئەگەر پىچەوانەي قورئان و سوننەتىش بى نابى كەس جورئەتى ئەمە بکات بلى ئەمە مەزھبە لەو شتەدا هەلەيەو نەپېتىكاوهـ.

ئىمە دەنلىيائىن كە ئەمە ئىمامە بە رېزانە هىچ درېغىيان نە كردووە لە ئاست گەياندىن و روونكىرىنىمەن دىن و دۆزىنەمەنەي حق و راستى، بەلام شتىكى حاشا هەلنىڭ كەنەن بەلگە نەويىستىشە كە شەرىعەتى ئىسلام لە سنورى بازىنە ئەمە چوار مەزھبەدا كورت نە كراوهە تەمەنە، بەلگو فەتوای ئەمە زانىانە و غەيرى ئەوانىش تەنها لېكدانەمەنە و روونكىرىنىمەنەي مانا كانى قورئان و سوننەتن، بويىه شتىكى هەلەمە نەگۈجاوه كە وابزانىن ھەرچى لەمە مەزھبەبانەدا ھەبۇو ئىتىر ئەمە حەقەمە

راستمو، هەرچیش لەمۇ مەزھەبەدا نەبوو ئىتىز هەلسو ناراسته، چ جای ئەمۇي كە تەنها يەكىك لەمۇ مەزھانە بە راست بىزانىن و ئەوانى تر بە هەلە!!! ئەوه خۇي بۇ خۇي كە كورتىرىنىيەتى لەسەر بىرۇبۇچۇونى خەلک، نەك بە بەلگەي قورئان و سوننەت.

ھەركات بە بەلگەي قورئان و سوننەت سەملىئىرا كە فلان زانا و پىشەوا بە هەلەدا چۈوه لە مەسىھىيەكدا يان لە فەتوايەكىدا، ئەمۇ پىۋىستە لەسەر ئىمە بىيەك و دوو لېكىردىن واز لە فەتواي ئەمۇ زانايە بەھىنەن و بە پىيى بەلگە كە هەلسو كەوت بىكەين، نەك بلىيەن ئىمە فلان مەزھەبىن و لە قىسى مەزھەبە كە لانادىن!!!

چونكە ئىمە ئەگەر بە راستى گوئى بىگرىن بۇ ئەمۇ ئىمامە بەریزانە، دەيىنەن ئەوان زۆر لەمۇ پاك و پىۋىزلىرىن و ھەرگىز رازى نەبۇون بەمۇي كە قىسە كانىيان بەمۇ جوڭە تەماشا بىرى لە ئاست قورئان و سوننەتدا.

پىيم خوشە لىرەدا قىسى ھەرىيەك لەمۇ چوار ئىمامە نەقل بىكەم دەربارەي پابەندى ئەوان بە قورئان سوننەتمۇدۇ رازى نەبۇونىيان بەمۇي كە خەلک كويىرانە شوينىيان بىكەون:

يەكەم: ئىمامى «ئەبۇھەنېفە»:

كە بە مەزھەبە كەمى دەوتىرى مەزھەبى «حەنەفى»، كە كاتى خۇي ئامۇزىگارى خەلکى كردووھ كە دەستبىگرن بە قورئان و سوننەتمۇدۇ وازبەھىنن لە تەقلىيدى كويىرانە، لە فەرمایىستانەي كە فەرمۇويەتى:

- 1 - «إذا صح الحديث فهو مذهبي» واته: «ئەگەر فەرمۇدەيدىھەكى صحىح بۇو، ئەمە مەزھەبى من لەگەل ئەمە فەرمۇدەيدا يە»⁽¹⁾
- 2 - «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه». واته: «درست نېيە بۇ ھىچ كەسىك قسە لە ئىمەمە وەرىگەرى و نەزانى ئىمە ئەمە قسەمان لە كۆپۈھ ھىنواھ»⁽²⁾
- 3 - «حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتى بكلامي». واته: «ھەر كەسىك نەزانى بەلگەمى من چىيە، ئەمە حەرامە لە سەرى بەپىي قسمى من فەتوا بىدات»⁽³⁾.
- 4 - «إذا قلت قولًا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي». واته: «ئەگەر قسەيەكم كرد پىچەوانە قورئان و سوننەت بۇو، ئەمە واز لە قسە كەمى من بەيىن»⁽⁴⁾.
- دۇغۇم: ئىمامى «مالىك»:**
- ئىمامى مالىك بە رەحمەت بى ئەمۇش فەرمایىشتى زۆرى فەرمۇوە بۇ ئەمۇسى مۇسلمانان دەستىگەرتوو بن بە قورئان و سوننەتەمەو تەقلیدى كۆپۈرانە نەكە بۇ ھىچ كەسىك:
- 1 - «إِنَّمَا أَنَا بِشَرٍ أَخْطَى وَأَصِيبُ فَانظُرُوا فِي رأْيِي فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسَّنَةَ فَخَذُوهُ وَكُلُّ مَا لَمْ يَوَافِقْ الْكِتَابَ وَالسَّنَةَ فَاتَرْكُوهُ». واته: «منىش مروۋىچىك لەمۇ قسانەيى كە دەيىكم ھەلە دەكەم و راستىش دەپىيڭىم، بۆيە ئىيۇش سەيرى قسە كام

(1) حاشية رد المختار - (ج 1 / ص 72).

(2) صفة الصلاة للألباني - (ج 1 / ص 47).

(3) صفة الصلاة للألباني - (ج 1 / ص 47).

(4) صفة الصلاة للألباني - (ج 1 / ص 48).

بىكىن، ھەركامىيان لەگەل قورئان و سوننەت يەكىدەگەرتەمە وەربىگەرن، وە ئەگەر پىچەوانەمى قورئان و سوننەت بۇو وازى لىيېھىنن»⁽¹⁾.

2- «لىس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم » واتە: «جگە لە پىغەمبەر ﷺ ھەمۇو كەسىك قسمى وەردەگىرى و وازىشى لىيەھىنرى، تەنها پىغەمبەر نەبىٰ ﷺ»⁽²⁾.

سېتىھەم: ئىيماصىن (شافعى):

بەھەمان شىيۆھ ئەھۋىش دەفەرمۇسى:

1- «ما من أحد إلا وتدھب عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله». واتە: «ھېچ كەسىك نىيە ئىلا ھەندى لە فەرمۇودە كانى پىغەمبەرى لە دەست دەردەچى و بى ئاگادەبى، جا بويىھ ھەركات من قسەيەكم كەرد يان بىنەمايىيەكى فقهىم باسەكەرد، بەلام لە پىغەمبەرەوە ﷺ فەرمۇودەيەكتان پىگەيشىت پىچەوانەمى ئەھۋاش قسەيە بۇو كە من بۇو، ئەھۋا قسە قسەي پىغەمبەرە ﷺ و دەبى شوينى بىكەون، ئەھۋاش قسەي منه و وازى لىيېھىنن»⁽³⁾.

2- «أجمع المسلمين على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد ». واتە: «موسلمانان يەكىدەنگەن لەسەر

(1) صفة الصلاة للألبانى - (ج 1 / ص 48).

(2) صفة الصلاة للألبانى - (ج 1 / ص 49).

(3) صفة الصلاة للألبانى - (ج 1 / ص 50).

ئەمۇدى كە ھەركەس سوننەتى پىغەمبەرى ﷺ بۆ دەركەوت دروست نىيە وازى لى بەھىنى لەبەر قىسى كەسىكى ترى»⁽¹⁾.

3- «إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابٍ خَلَافَ سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا بِسَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُعُوا مَا قُلْتَ». وَاتَّهُ: «لَهُ هُمْ كَتِيبَتِكِي مَنْدَا شَتِيكَتَانْ بَيْنِي پِيچَهَوَانَهِي سُونَنَهَتِي پِيغَهَمَبَهَرْ بَوْوَعَلِيَّهُ، ئَهُوا ئَيْوَهُ بَهُ پِيَسِي سُونَنَهَتِي پِيغَهَمَبَهَرَعَلِيَّهُ فَهَتَوَا بَدَنَوْ، وَازْ لَهُ قَسَهِي مِنْ بَهِيَنَنْ»⁽²⁾.

4- «إِذَا صَحَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهِبٌ» وَاتَّهُ: «ئَهَگَهْرْ فَهَرْمَوْدَهِيَهِ كَيْ صَحِيحٌ بَوْوَ، ئَهُوا مَذْهَهَبِي مِنْ لَهَگَهْلَ ئَهُوا فَهَرْمَوْدَهِيَهِيَه»⁽³⁾.

5- «كُلُّ مَسَأَةٍ صَحَ فِيهَا الْخَبْرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ بِخَلَافِ مَا قُلْتَ فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِي حَيَايِي وَبَعْدَ مَوْتِي». وَاتَّهُ: «ئَهَگَهْرْ لَهُ پِيغَهَمَبَهَرَوَهَعَلِيَّهُ فَهَرْمَوْدَهِيَهِ كَيْ صَحِيحِي لَهَسَهَرْ بَوْوَ، وَهُمْ نَيِّشَ قَسَهِيَهِ كَمْ كَرْدَ بَوْوَ پِيچَهَوَانَهِي ئَهُوا فَهَرْمَوْدَهِيَهِ بَوْوَ، ئَهُوا لَهُ قَسَهِي كَمْ خَوْمَ پَهْشِيَمَانْ لَهُ ژِيَانِمَوْ لَهُ دَوَائِيْ مَرْدَنْ»⁽⁴⁾.

6- «كُلُّ مَا قُلْتَ فَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَافُ قَوْلِيْ مَا يَصْحُ فَحَدِيثُ النَّبِيِّ أَوْلَى فَلَا تَقْلِيدُنِي». وَاتَّهُ: «ئَهَگَهْرْ قَسَهِيَهِ كَمْ كَرْدَ پِيچَهَوَانَهِي فَهَرْمَوْدَهِيَهِ صَحِيحِي پِيغَهَمَبَهَرْ بَوْوَعَلِيَّهُ، ئَهُوا شَوْيِنْكَمْوَتَنِي پِيغَهَمَبَهَرَعَلِيَّهُ لَهُ پِيَشْتَرِه، نَهُكْ تَهْقِيلِدَكَرْدَنْ بَوْ قَسَهِي كَمِيْ مِنْ»⁽⁵⁾.

(1) صفة الصلاة للألباني - (ج 1 / ص 50).

(2) صفة الصلاة للألباني - (ج 1 / ص 50).

(3) صفة الصلاة للألباني - (ج 1 / ص 50).

(4) صفة الصلاة للألباني - (ج 1 / ص 52).

(5) صفة الصلاة للألباني - (ج 1 / ص 52).

سیئہ م: ئیمامی ((ئے حمد)):

زور به راشکاوی فهرمومویه‌تی:

1-» لا تقلدي ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الشوري وخذ من حيث أخذوا « واته: «نه كمن تهقليدى من نه كمن، ونه تهقليدى ماليكى بكمن ونه تهقليدى شافعى بكمن، ونه تهقليدى ئهوزاعى بكمن، ونه تهقليدى سهورى بكمن، نهوان دينيان له كوييه وهرگر توروه نيوهش لموييه وهربيگرن»⁽¹⁾.

2- «من رد حديث رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو على شفا هلكة» واته:
((هر کهس فرموده يه کي بیغه مبیر رده بکاته وه ئه وه به هیلاک دهچی))⁽²⁾.

شوينکه وتنی ناحلیانه بو حزبه سیاسیه کان:

ترساناکیه‌کی تر که رپووی له کومه‌لگه‌ی موسلمانان کرد ووه له ته قلیدی
کویرانمه‌ی مه‌زه‌ه‌بی ترساناکتره بربیتیه له شوینکه‌وتني ناحالیانه‌ی حزبه
ساسه‌کان.

ئەم کەسانەی کە ھەواو ئارەزوو و بەرژەوندى و مەصلەحەتى حىزبى كەپروو
كاسى كردوون، بو ئەمەي دلى خەلکى لە خۆيان رازى بىھن و كەس لە خۆيان
زۇويىر نەكەن، بو فەتواتان و بىرياردان لەسىر مەسەلەيەكى فقەمى زۆربەي جار
دەچن بە ناو مەزھەبە كاندا دەگەرىن و لە ھەر مەزھەبىكدا فەتوايىك درابى
ھەرچەندە لاوازى بى بنەماش بى، بەلام لەبەر ئەمەي لەگەل بەرژەوندى
ھىزبەكەياندا دەگۈنچى دەيھىنەن و فەتواي پىددەن، واتە ئەمەي كە لەگەل
بەرژەوندى ئەواندا بگۈنچى و بە گۈرە مەصلەحەتى، ئەوان بى، ھەلىدەشىن، بە

(1) صفة الصلاة للألباني - (ج ١ / ص ٥٢).

(2) صفة الصلاة للألباني - (ج 1 / ص 52).

بى ئۇھى گۈي بەمۇ بىدەن كە ئايا بەلگەمى ئەمۇ مەزھەبە چىيە؟ بەلگەكمى
دروستە يان دروست نىيە!!

يان ھەندى جار پرسىيار لە ماموستا حزبىيە كان بىكى دەربارەي بابەتىك، بۇ
ئۇھى دلى ھەممۇ لايەك رازى بىكەن و كەس لە خۆيان زۇويىر نەكەن، بۇ ۋەلامى
پرسىيارە كەيان دەلىن: زانايان دەربارە ئەمە مەسىھەلە بۇ چۈونىيان جىاوازە
ھەندىيەكىيان دەلى دەبى وابى، بەلام ھەندىيەكى ترىيان دەلىن نا دەبى بەم شىيەتى
تر بى، لەگەل ئۇھەشدا بەلگەمى راشكاو دىارە كامىيان راستو پەسەنتە، بۇ
نمۇنە دەربارە دەستنۇيىزى نېوان ژن و پىاو لە يەك دەشكىت يان نا، بەم جوّرە
وەلام دەدەنەوە: دەتوانى بىشكىنى و دەشتowanى نەيشكىنى !!!

يان نەمونەيەكى تر كە پرسىياريان لى بىكى دەربارە موسىقا دەلىن
ھەندى لە زانايان دەفەرمۇون حەرامە، بەلام ھەندىيەكى تر دەفەرمۇون حەللاە!!!
بەم جوّرە ھەم خۆيان گەپوكاس و لال كردووه، ھەم خەلکى داما و
نەخويىندەواريان سەرگەردان و حەيران كردووه !!!

ئەم حزبە سىاسىيانە بە ناوى دىنەوە زۆرىك لە حەرامە كانيان حەللان كردووه
بۇ مەصلەحتى حزبى و رازى كردنى دلى خەلکى !! دىن بەم شىيەتى
لىكىدەنەوە كە مەصلەحتى خوبىانى تىدا بى دلى خەلکى رازى بکات !! نەك
ھەولبىدەن بۇ ئۇھى كە دىن وەك خۆي بە خەلکى بگەيىمن!! واتە دىن دەبەنە
ئاستى مەصلەحتى خۆيان و ھەزى خەلکى، نەك ھەولبىدەن خۆيان و خەلکى
بېنە ئاستى دىن..

مەبەستى ئەم كارو رەفتارەشيان ئۇھى كە زۆرتىرين خەلکى لە دەوري خۆيان
گەردەوە بىكەن، بۇ ئۇھى بە زۇرىنەي دەنگى خەلکى بگەنە دەسەلات و كورسى
پەرلەمان !! ئىتە ئەم خەلکى دەورو بەريان عەقىدەي چى يە دىندايى چۈنە

له لای ئەوان گرنگ نى يه !! گرنگ ئەوهىي زۆزىنەي لە دەوربى !! بۆيە لە خەمى ئەوهادىن كە لمىسىر «تەوحيد» و «ئىتىباع» خەلکى پەروەردە بىكەن !!

ھەربىيە كاتىيك كە پىيان بۇوتىرى ئەو شتەي كە ئىيۇدەيىكەن پىچەوانەي ئەۋ ئايەتەي قورئانە يان پىچەوانەي ئەو فەرمۇودەيەي پىغەمبەر صلی اللہ علیہ وسلم، وەلامىيان دوو شتە يان ئەوهەتا دەلىن ئەگەر بەو جۆرە بوايە ئەوا مامۇستا فلان يان ئەمېر حزب نەيدەوت دروستە، ياخود دەلىن مەصلەحتى دەعوەيە، واتە مەصلەحتى دەعوەي حزبە كەمى..

خوشكى دىندارم:

ئەم كتىبە كە نوسراوەتەو دوورە لە ھەردوو گىزىاي تەقلیدى كويىرانە بۇ مەزھەبى فقهى و شوينىكەوتنى ناھالىيانە بۇ حزبى سىاسى. بەلکو ھەمۇ ئەحکامە فقهيە كان لە ژىير روشنايى «قورئان و سوننەت»دا درەشاوەتەوە پۇونكرابەتەمە، گفتارى پېپىيت و ووتەمى رەسەنى زانايىان و شەرعناسانى ئىسلامىش كامىيان لەگەل «قورئان و سوننەت» يەككى گرتىيەتەوە ئەوا وەرگىراوە پېشتى پى بەستراوە.

وە ھەر «حدىث» يېك باسکرابى، تەخريج كراوە ئاماژە كراوە بۇ سەرچاوهى رەسەنى فەرمۇودە كە، جا ئەگەر ئەو «حدىث» لە «صحىح البخارى» و «صحىح المسلم» يان لە يەكىييان دا ھاتبى، ئەوا تەنها ئاماژە بەسەرچاوه کانى فەرمۇودە كە كراوە، چۈنكە گومان لەوەدا نىيە كە فەرمۇودە كانى ئەو دوو سەرچاوه يە وەرگىراون..

بەلام ئەگەر ھەر «حدىث» يېك لەيەكىيڭ لە دوو سەرچاوهدا نەھاتبى، ئەو سەرپاى ئەوهى «حدىث» كە تەخريج كراوە، ئاماژە بە پلەي «حدىث» كەش كراوە كە ئاييا «صحىح» يان «حسن» يان «ضعيف».

وه بو دیاری کردنی پلمی «حدیث»، کان له رووی «صحیح» و «ضعیف»، یمهوه پشت بهستراوه به کتیبه کانی زانای فهرموده ناسی سه رد هم و ئیمامی ئههلى سوننه «محمد ناصرالدین الألبانی» که به شهیخ «الألبانی» ناسراوه.

وه قسمو لیکدانهوهی هم زاناو شعر عناسیک يان بوچونی هەریەك لە مەزھبە کانیش باسکرابى، ئەوا ئاماژە کراوه به سەرچاوه کەھى.. پاشان تەواوى سەرچاوه کانیش لە کوتایي کتیبه کەدا نوسراونەتهوه.


لە کۆتاوی دا:

دەمەوي زۆر سوپاسى ماموستا «جمعه»^(۱) بکەم کە هەستا به هەلسەنگاندى کتیبه کەو، پىداچۇونەھەيدى زانستيانەي بۆ کتیبه کە كرد.. وە ھەروەها زۆر سوپاسى برای بەرپىزم «م. محمد احمد» و خوشكى شىرىئىم «م. بەنان سعدى» دەكەم کە ماموستاي رېزمانى كوردىن و ئەركى چا كردنەوهى ھەلەھى رېتسى و رېزمانى کتیبه کە يان گرتە ئەستو، خواي گەورە پاداشتى ماندووبۇونى ھەموو يان بىدا تەھو كە ئەركىكىيان لە گەل کتیبه کەدا كىشاوه..

ھەر شتىك لەم کتیبه دا نوسراابى، ئەگەر حەق و صەوابم پىكابى، ئەوا لە خوداوهى داوا كارم ليىمى قەبۈل كردى، وە ھەرشتىك ئەگەر ھەلە ناتەواوى بى، ئەوا بە نەزانىن بۇوه لىنى پەشىمانم لە ۋىيان و لە پاش مىدەم...

(۱) پىش نويىز و تار خويىنى مىزگەوتى ئاشتى لە كەركوك.

داواکارم له خوای بهبوزه‌یی و به رهحم که لهم کاره‌مدا به ئیخلاص و ئهو
مهبھست بون بھرەندمی کردبى به ئىتابع و شوينكھوتنى
پيغەمبەرە كەھى ﷺ رېزدارمى کردبى و لە پيسايى رياو غەيرى ئهو
مهبھست بون خاوينىمی کردبى لە كويىرە رېچكەھى بيدعمو شوينكھوتنى
غەيرى پيغەمبەرە كەھى ﷺ رزگارمى کردبى ...
وھ ئومىدش دەكەم هەموو خوشىكى موسىلماڭ لىي سوودمەند بى و دوعاى
ئەوەم بوبکات كە خودا ئەم كارە لىيم قەبول کردبى و بىكات بە خىرو
حەسەنات و كەفارەتى تاوان و هەلّمۇ كەم و كورپىيەكانم، و لە قيامەتىش دا لە
«فېرىدەوس» بىبەشم نەكات..



«باوکى فېرىدەوس»

دكتور

كاوه ئەكرەم سەنگاوى

«پزىشك و نەشتهگەرى نەخوشىيەكانى دەم و ددان»

سلیمانى / نەخوشخانەي گشتى سلیمانى / خانەي پزىشكان «دارالأطباء»

شەھوی يەك شەھەمە

2010/4/26

www.firdows.com

